



هَذَا النَّبِيُّ

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة
Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.

باللغة الأرومية



إعداد
د. ناجي بن إبراهيم العرفج
وفقه الله

ترجمة
جمعية الدعوة والإرشاد
وتوعية الجاليات بالربوة

هَدِي النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ
Qajeelfama Nabi Muhammad ﷺ

للحفظ والوقاية
من الشرور والأمراض والأوبئة
dhukkubaafii hamturraa tiyfamuuf.

Bismillaahi Rrahmaani Rrahiim

Jaarraa 14 dura osoo saayisiifii teknooloojiin hin argamin, osoo qaroominni eeggomsa fayyaa kan amma jiru kuni hin argamin dura nabiin keenya Muhammad s.a.w. akkaataa dhukkubaafii hamtuu hunda koroona (kovid 19)s dabalatee akkaataa irraa eeggannu qur'aanaafii hadiisarraa nuqajeelchee jira.

Namni nagayaa fii tiyfamuu fii milkii barbaadu Rabbii tokkichatti dhugaan amanuu barbaachisa. Isuma qofa gabbaree ibaadaa isaaf qulqulleessuu barbaachisa.

Rabbuma qofa kan mootummaa, dandeettiifii humna qabu. Kan fayyisus isuma qofa. Kunoo nabi ibraahiimirraa odeessee qur'aana keessatti akkana jedhe

﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ [الشعراء: 80]

“yeroon dhukkubsadhe isaatu nafayyisa”.

Ammas akkana jedhe

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾

“ jedhi waan Rabbiin nuu katabe malee nuntuuyxu, gooftaan keenya isa, muimintoonni Allaaharratti haa irkatanii”.

Iimaana dhugaa kanaan towhiida dhugaa tiifii tawakkula guutuu mirkaneessina.

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.



للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة

ولقد أرشدنا النبي محمد ﷺ إلى ضرورة الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله،

Nabiin keenya s.a.w. Rabbirratti irkachuudhaan wajji sababaa uf eeggannoo qabachutti nu ajajan

Akkasuma san uf tiisuun eeggannoo godhuun yoo dhukkubsatan dawaadhaan uf wal'aanuun barbaachisaa tahuu ibsan.

ومن هديه أيضا ما يسمى اليوم "بالعزل الصحي" عند انتشار الوباء والطاعون.

Seera nabii keenyaarraa adda bahiinsa fayyaa yeroo dhukkubni tatamsa'aan dhufe barbaachiisa tahuu ibsan.

Nabiin s.a.w. muslimtoota qulqulleefatutti ajajan, xahaaratti ajajan, guyyatti yeroo shan salaataaf wuduu'a godhachutti ajajan.

Wuduu'a irra deddeebi'anii godhachuun kuni harkaa fii fuula afaaniifii funyaan dhiqatanii qulqulleessuudha uf keessaa qaba. Kuni feyrusaafii maykiroobaat qaama namaa weyrartu ittisa.

كما أنه حث على تغطية الفم عند العطاس (أو الكحة).

Akaasuma nabiiin keenya yeeroo qufaa yookaa hxxissoo afaaniifii funyaan hagoogutti ajajan.

Kana jechuun waan amma dhaabbanni fayyaa addunyaa (WHO) ajaju kan ogeeyyiin fayyaa ajajan, qajeelfama dhabbiileen fayyaafii hoospitaaloonni baasan dhukkubsataan adda fagaachuu, qulqullummaa dhuunfaa eeggachuu, harka dhiqachuufii tooftaalle itti dhukkubaa kan amma addunyaan labsaa jirtu kana nabiiin keenya s.a.w. jarraa hedduu dura itti ajajan.

Fayyaaf walirraa achi bahuufii qulqullummaa dhuunfaa eeggachuu nabiiin keenya s.a.w. jaarraalee hedduu dura labsan mirkaneessuun saayintistiin ameerikaa tokko kan maqaan isaa pr/kiriq konisdiin jedhamu barruu isaa tan gazexaa ameerika tan niwuzwiik keessatti dhihesseen akkana jedhe,

"Do you know who else suggested good hygiene and quarantining during a pandemic?"

Mee nama tokko kan yeroo duraatiif achibahiinsa fayyaatiifii eggumsa qulqullummaa dhuunfaa barsiisee beeyta ? jedhee gafii dhiheesse.

"Muhammad, the prophet of Islam, over 1,300 years ago."

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.

هَذَا النَّبِيُّ

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة



Deebisa ufumaa ufiif kennee akki jedhe “ eeyyen inni Muhammad nabiyyii islaamaa kan bara 1300 dura jirachuu ture.

Kanarra profeser hadiisota tokko tokko kaasee raga godhachuu ture.

“إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها”.

Jecha nabii s.a.w. dhukkuba weeraraa biyya takkatti bu’uu yoo dhafeessan itti hinseeninaa, yoo biyya isin jirtanitti bue irraa hinbahinaa.

“ لا يُورِدُ مُمْرَضٌ عَلَى مُصِيحٍ .”

Nabiin s.a.w. nijedhe “horiin dhukkubsataan horii fayyatti akka hinmakamne”.

“الطهور شطر الإيمان”

“Qulqulleefachuun walakkaa iimaanaati.”

Akkasuma namni kuni hadiisa nabii kan dawaa waliif godhutti ajaju kana raga godhate,

قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداؤوا، فإن الله لم يضع داءً إلا

وضع له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً، فقالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: الهرم.

Warri baadiyaa yaa ergamaa Rabbii waliif dawaa hinguonuu? Jennaan Nabiin s.a.w. “ee yaa gabroottan Rabbi dawaa waliif godhaa Rabbiin dhukkuba buuse dawas jala buusu malee hinhanbifnee, dhukkuba tokko malee” . sun kami yaa ergamaa Rabbii jennaan “dullummaadha” jedhan.

Tuni duaaiilee Nabiiti tan nabii isiin kadhate tan muimina tiysitu fedhii Rabbiitiin. Eega Rabbitti irkatee isarra kaayatan booda.

قال ﷺ: (مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ). حديث صحيح، رواه البخاري

Nabiin s.a.w. akki jedhe “Namni aayata lameen dhuma suuraa baqaraa galgala qara’e halkan saniif waa hundarraa isaaf geessi.” Hadiisa sahiha bukhaariitu odeesse.

قال ﷺ: (قل هو الله أحدٌ والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مراتٍ؛ تكفيك من كل شيءٍ). حديث صحيح، رواه أبو داود

كل شيءٍ). حديث صحيح، رواه أبو داود

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.

هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة



Nabiin s.a.w. akkana jedhan “ **qulhuwallaahu ahad fii qul auuzu lameen ganamaaf galagala yoggu sadi sadi yoo qaraate waa hundaarraa siif geessi**”. Abuu daawuud odeesse sahiha.

كذلك أخبر النبي ﷺ في عدة أحاديث عن فضل قراءة آية الكرسي، ومن ذلك إقراره لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه

Akkasuma hadiisa hedduu keessatti sadarkaa aayatul kursiyyii qaraauun qabdu ibsee jira, san keessaa kan abii hureeyraan odeesef mirkaneessuu isaati,

(... إذا أويت إلى فراشك، فاقراً آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح).
حديث صحيح، رواه البخاري

Nabiin s.a.w. akkana jedhan “**yeroo gara firaasha keetii galte aayatul kursiyyii qarai –Allaahu laa ilaaha illaa huwa alhayyu alqayyuum-hanga xumura aayataatti, tiysaan Rabbirraa tahe sibiratti tahurraa hindeemu, sheyxaanni sitti hindhihaatu hanga bariisifattutti**”. Bukhaaritu odeesse, hadiisni sahiha.

قال ﷺ : “ مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحِ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ ”.
حديث صحيح، رواه الترمذي

Nabiin s.a.w. akki jedhe “ **gabrichuma tahee haatahuu kan ganamaafii galgala du’aa’ii tana yoggu sadi sadi qara’e homaa isa hinmiidhu. Kunoo isiin tana** “bismillaahillazii laa yadurru ma’a ismihii shey’un fil ardi walaa fissaamaai wahuwa ssamii’ul aliim “**maqaa Rabbii maqaa isaatiin wajji dachiifii samii keessattis wanni takka nama hinmiineetiin tiyfama, inni dhagayaa argaadha.**”jedhe homaa isa hinmiidhan.

Oduu garitti “**namni bismillaahi...yoggu sadih jedhe balaan tasaa isa hintuqu hanga ganamsatutti. Namni ganama yoggu sadih jedhe hanga dhiisifatutti balaan isa hintuuyxu**” sahiha abiidaawud.

Tirmiziitu odeesse.

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.

هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة



عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله ﷺ لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي وَمَالِي، اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِي، وَآمِنْ رَوْعَاتِي، اللَّهُمَّ احْفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ فَوْقِي وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي.”

Abdillaah binu umar akki jedhe Nabiin ganamaafii galgala du'aa'ii tana hindhiisu jedhe “Allaahumma innii as'aluka al'aafiyata fidduniyaa wal'aakhiraa, Allaahumma innii as'alukal afwa wal aafiyata fiidiinii wadunyaaya wa ahlii wamaalii, Allaahumma stur awraatii wa aamin raw'aatii, Allaahummahfaznii min beyni yadayya waminkhalfii wa anyamiinii wa anshimaalii wa minfawqii wa a'uuzu biazamatika an ughtaata min tahtii.” **Yaa Rabbi ani addunyaafii aakhirattis dhiifamaafi nageenyan si kadha. Yaa Rabbi ani amantii, addunyaa, maatiifi qabeenya kiyya keessatti dhiifamaafi nageenyan si kadha. Yaa Rabbi qaama kiyyas naa satari. Sodaa irraas naga na godhi. Yaa Rabbi fuuldura kiyyaan, duuba kiyyaan, mirga kiyyaan, bitaa kiyyaafi gubbaa kiyyaan na tiksii. Jala kiyyaan gadi liqimfamuu irraas sittin maganfadha.**” Sahiihu kalimixxayyib

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال ﷺ: “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُدَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ.”

Anas ilma maalik irraa odeeffamee nabiin s.a.w. akkana jedhan jedhe

Allaahumma innii a'uuzu bika minal barasi waljunuuni waljuzaami wamin sayyi'il asqaam”.

“yaa Rabbi ani soomirraan sitti maganfadha, akkasuma maraattummarraa, qomaaxarraa, dhukkuboota hammaatorraan sitti maganfadha”. Abuu daawud sanada sahihaan odeesse.

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.

هَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة



قال ﷺ: (إذا خرج الرجل من بيته، فقال: باسمِ الله، توكلتُ على الله، لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله، يُقالُ له: هُديتَ، وكُفيتَ، ووُقيتَ، ففتتَحَى عنه الشَّيَاطِينُ، فيقولُ شَيْطَانٌ آخَرُ: كيف لك برَجُلٍ قد هُديَ وكُفيَ ووُقيَ؟). حديث صحيح، رواه أبو داود

Nabiin s.a.w. akki jedhe,” Namni ganama yeroo mana isaatii bahu Bismillaahi tawakkaltu alallaahi laa hawla walaquwwata illaa billaahi (Maqaa Rabbiitiin. Rabbirratti irkadhe. Tooftaafi humni Rabbiin biraa malee hin argamu.) Jedhe isaan jedhama qajeelfamte, geeyfamte, tiyfamte, isaan jedhama. Sheyxaannis isa dheeya.” Abuu daawud tirmiziifii nasaiitu odeesse.

قال ﷺ: (من قال في دُبرِ صلاةِ الفجرِ وهو ثانٍ رجلِيه قبلَ أن يتكلَّمَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وحدهُ لا شريكَ له، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، يُحيي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ عشرَ مرَّاتٍ كتب اللهُ له عشرَ حسناتٍ، ومَحَا عنه عشرَ سيئاتٍ، ورفعَ له عشرَ درجاتٍ، وكان يومه ذلك كله في حرزٍ من كلِّ مكروهٍ وحُرْسٍ من الشَّيْطَانِ). حديث صحيح،

رواه الترمذي

Nabiin s.a.w. namni salaata fajrii boodarra bakkuma san ta'ee osoo hindubbatin zikrii tana jedhe –laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa shariika lahu lahu mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wahuwa alaa kulli sheyin qadiir- yoggu kudhan jedhe Rabbiin toltuu kudha isaaf barreessa hamtuu kudhan isarraa haqa sadarkaa kudhan ol isa fuudha, guyyaa isaan sah sheyxaanaafii hamtuu hundarraa tiyfama”

Tirmizii odeesse

وعن عائشة رضي الله عنها، كان النبي ﷺ إذا أوى إلى فراشه كلَّ ليلةٍ جمعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: " قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ". حديث صحيح، رواه البخاري

Aaishaan nabiin s.a.w. yeroo gara firaashaa ciisuuf dhufan harka lameen walitti qabanii keysatti tufanii qulhuwallahu ahadiifii qul auuzu birabbil falaq fii qul auuzu birabbinnaas keesatti qara'ani, qaama isaaniitiin

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.



للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة

haxaawan , matarraa jalqabanii waan gama duraa kana bakka dhaqqaban waliin gayan, kana yoggu sadihi raawwatan”.bukhaariitu odeesse.

وفي مجال الطبّ العلاجيّ، نجد إرشادات عظيمة وتوجيهات كريمة جاءت في سنّة

النبي محمد وهديه الكريم ﷺ

Karaa wal’aansa fayyaa keessatti qajeelfamaafii barnoota filatamoo kan hadiisa nabii keessatti dhufan hedduu arganna.

ومن ذلك، إقرار النبي للصحابة ﷺ بقراءة سورة الفاتحة؛ رقية واستشفاء للمريض والمصاب والمدوغ.

وجاء في قصة رقية اللديغ:

San keessaa seenaa faatihaa nama jawweefii qaajjibbuun idditerratti qara’anii wal’aanuuti.

(قال أبو سعيدٍ ﷺ: فَأَتَيْتُهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ؛ فَأَفَاقَ وَبِرّاً... حَتَّى أَتَيْنَا رَسُولَ

اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ؟). حديث صحيح، رواه أبو داود

Abbaan said akki jedhe “namticha ciniiname san itti dhaqetin faatihaa itti qarae achumaan fayye, ...nabitti dhaynee itti himne, isiin dawaa tahuu maaltu sibeysise? Naan jedhe. Abuu daawud odeesse.

ومن ذلك أيضا هذا التوجيه النبوي الذي يرويه لنا هذا الصحابي الجليل:

عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكّا إلى رسول الله ﷺ وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله ﷺ:

Akkasuma seenaan sahaabdichi kuni nuuf odeessu kana ibsa,

Usmaan binul abil aas irra odeeffamee laalaa qaama isaa keessatti isatti dhagayamu nabitti himate,

(ضع يدك على الذي يألم من جسّدك وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ

بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال: ففعلت، فأذهب الله ما كان بي).

حديث صحيح، رواه مسلم

Nabiin s.a.w. akki jedhaniin “bakka sidhukkubdu sanirra harka kee kaayii yoggu torba akkana jedhi “ auuzu bi izzatillaahi

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.



للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة

waqudratihii minkulli maa ajidu wa uhaaziru” akkas goonaan dhukkubbiin sun narraa fayye” jedhe. Muslimtu galmeesse.

وجاء رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقال: يا رسولَ اللهِ ، ما لقيتُ من عقربٍ لدغتنِي البارحةَ .
فقال له رسولُ اللهِ ﷺ: (أما إنَّكَ لو قلتَ حينَ أمسيتَ: أعوذُ بكلماتِ اللهِ التَّامَّاتِ من شرِّ ما خلقَ لم تضرَّكَ) . حديث صحيح، رواه مسلم

Namtichi tokko nabitti dhufee yaa ergamaa Rabbii eda qaajibbuun nacinnite jedheen. Nabiin s.a.w. “ati osoo yeroo dhiisifattu auuzu bikalimaatillaahittaammaati min sharri maa kalaqa jettee si hinmiidhu”. Muslimtu odeesse.

وعن عائشة رضي الله عنها ، كان النبيُّ ﷺ يُعوذُ بِعُضِّ أَهْلِهِ ، يَمَسُّحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى وَيَقُولُ:
(اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي ، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا) . حديث صحيح، رواه البخاري

Aaisharraa odeeffamee nabiin s.a.w. garii maatii isaa harka mirgaatiin haxaayee akkana itti qarae “Allaahumma Rabba nnaas azhibil baisi, ishfihi antashaafii laa shifaa’aa illaa shifaauka, shifaa’an laa yugaadiru saqamaa”.bukhaariitu odeesse.

قال ثابتٌ: يا أبا حمزة، اشتكيتُ، فقال أنسٌ: أَلَا أَرُقِيكَ بِرُقِيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قال: بلى،
قال: (اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ، مُذْهِبِ الْبَاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شَافِيَ إلَّا أَنْتَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا) . حديث صحيح، رواه البخاري

Saabit yaa abbaa hamzaa nadhukkuba jedheen, anas mee du’aa’ii nabii tanaan siwal’aanuu? Jennaan ee jedheen, eegasii du'aa'ii tana itti qara'e "Allahumma Rabbannaas muzhibal baisi, ishfi anta shaafii, laa shaafiya illaa anta, shifaa’an laa yugaadiru saqaman”. Bukhaariitu odeesse.

خاتمة

المؤمن الحق يؤمن إيماناً راسخاً بأن الله الواحد الخالق هو الحافظ من كل الشرور والأمراض والأوبئة. وعلينا جميعاً التوكل على الله والرجوع إليه بالتوبة والاستغفار،

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.



للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة

والدعاء والتضرع إلى الله، واتباع هدي النبي محمد ﷺ والوحي الذي أرسل إليه (القرآن الكريم)؛ من أجل السعادة والسلامة والحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة والقلق والاكتئاب.

Xumura

Muiminni dhugaa Rabbuma tokkicha haqaan gabbaramaa taheetu, dhukkubaafii hamtuu, hundarraa nama tiysa, nuhundi isarratti irkachuun dirqama, tobaan isa araarfannee gama isaa deebi'uun dirqama, isuma kadhannee isatti booyuu qabna. Milkii fii jiruu gammachuu argachuuf qur'aanaaf hadiisa nabiin nuttiin dhufe hordofuu qabna. Akkas taanaan hamtuu, dhukkuba, balaa , gaddaafii rakkoo hundarraa tiyfamnee nagaya baana.

يقول الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ﴾ ﴿٤٤﴾

Rabbiin ol tahe akkana jedha “ **Dhugaan ummata siin duraa keessatti ergaa ergine dhukkubaafii rakkoon isaan qabne akka isaan nuuf gadi jedhaniif.**”

ويقول سبحانه: ﴿وَأَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ﴾ ﴿٩٠﴾

Rabbiin ol tahe akkana jedha “**Rabbi keessan araarfadhaa, eegasii gama isaa towbaa deebi'aa, rabbiin kiyya rahmata godhaadhaa jaalatamaadhasi.**”

ويقول جل جلاله: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ﴿٣٠﴾

Yaa muimintoota hundi keessan towba gama Rabbi deebi'aa akka milkooytaniif.

دُعَاء

اللَّهُمَّ احْفَظْنَا وَأَحِبَّائِنَا وَالْمُسْلِمِينَ وَالنَّاسَ أَجْمَعِينَ مِنْ كُلِّ وَبَاءٍ وَبَلَاءٍ

Kadhaa

Yaa Rabbi nuufii jaalalleewwan keenyaafii muslimtootaafii ilmaan namaa hunda rakkoo fii dhukkuba hundarraa tiysi.

Qajeelfama nabi muhammad s.a.w.

هَدْيُ النَّبِيِّ ﷺ

للحفظ والوقاية من الشرور والأمراض والأوبئة





جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة



OFFICERABWAH

هاتف: ٠١١٤٤٥٤٩٠٠ - للتواصل: ٠٥٦٩٣٧٤٩٨٦